

BankIslami

شیڈول برائے
بینک چارجز
2025
یکم جولائی تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵

فہرست

1-	اندرون ملک ترسیلات	04
2-	کلکیشن اور دیگر خدمات	04
3-	کیش مینجمنٹ اور ایمپلائی بینکنگ سروس چارجز.....	07
	الف) کیش مینجمنٹ	07
	ب) ایمپلائی بینکنگ سروسز- موٹر سائیکل اور پائیدار سامان کی فنانسنگ	07
4-	ڈیجیٹل ڈیلیوری چینلز.....	07
	الف) اجراء / سالانہ سبکدوش اور تبدیلی (کارڈز کے لیے)	07
	ب) بینک اسلامی ڈیٹ کارڈز - فی ٹرانزیکشن چارجز	07
	ج) تنازعہ (ڈسپوٹ) پروسیسنگ چارجز (فی ٹرانزیکشن)	08
	د) ون ٹچ بینکنگ	08
	ر) کال سینٹر / IVR.....	09
5-	فنانسنگ	09
	الف) کنزیومر فنانس	09
	الف-الف) آؤ فنانس	09
	الف-ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن)	11
	الف-ج) تجارتی رہن	11
	الف-د) روشنی آسان (قابل تجدید توانائی کے لیے اسلامی مالیاتی سہولت)	12
	الف-ر) سیکافل	12
	الف-س) اسلامی محفوظ پرسل فنانس	12
	ب) کارپوریٹ / ایس ایم ای فنانسنگ	12
	ب-الف) گاڑیاں	12
	ب-ب) دیگر آلات	13
6-	فنانسنگ پر متفرق چارجز	14
7-	سیف ڈپازٹ لاکرز	14
8-	تجارتی خدمات	15
	الف) درآمدات	15
	ب) اندرون ملک تجارت	20
	ج) برآمدات	21
	د) لیٹر آف گارنٹی	22

- 9۔ بین الاقوامی ترسیلات 25
- 10۔ ڈاک اور مواصلات 26
- الف (کوریئر چارجز (تمام مقامات کے لیے) 26
- ب (رجسٹرڈ پوسٹ 26
- ج (سوئفٹ (SWIFT) چارجز 27
- د (RTGS چارجز 27
- ر (فیکس چارجز 27
- س (ٹیلی فون چارجز 27
- 11۔ BIPL اسٹاف کے لیے (صرف تنخواہ کا اکاؤنٹ) 27
- 12۔ بینک اسلامی ترجیحی بینکنگ 28
- الف (ترجیحی بینکنگ کسٹمر ریلیشن شپ کا معیار 28
- ب (ترجیحی بینکنگ فیس پر چھوٹ 28
- ج (کنزیومر بینکنگ مصنوعات پر چھوٹ 29
- 13۔ بینک اسلامی مشعل - خواتین کی بینکنگ 29
- الف (ڈپازٹ پروڈکٹس 29
- ب (کنزیومر فنانس 30
- ج (مشعل برنس فنانس 30
- 14۔ زرعی فنانسنگ 30
- 15۔ جین Z اکاؤنٹ 31
- 16۔ نوٹس 31

۱۔ اندرون ملک ترسیلات

(الف) بے آرڈر کا اجراء

اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ:

اسلامی سہولت اکاؤنٹ:

اسلامی بچت اکاؤنٹ:

اسلامی خیر کرنٹ اکاؤنٹ:

مفت

مفت

مفت

مفت

(ب) ڈیمانڈ ڈرافٹ / (DD) ٹیلی گرافک ٹرانسفر (TT) کا اجراء

10,000 روپے تک:

10,001 روپے سے 100,000 روپے تک

100,000 روپے سے زائد

(ج) نقد کے عوض ڈرافٹ MTs اور TTs

(د) DD اور بے آرڈر کی منسوخی

(ر) ڈپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ

(س) ڈپلیکیٹ بے آرڈر

(ص) تعلیمی اداروں کی فیس کی وصولی

(ط) تعلیمی اداروں کے بے آرڈر کا اجراء

(ع) تعلیمی اداروں، ایچ ای سی (HEC) بورڈ کے ڈیمانڈ

ڈرافٹ یا دیگر انسٹرومنٹ کا اجراء

30/- روپے (فلیٹ) + کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق

0.20 فیصد کم از کم - 50/- روپے + کرسپانڈنٹ چارجز، اصل کے مطابق

0.25 فیصد - کم از کم - 300/- روپے

یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔

400/- روپے

300/- روپے

300/- روپے

مفت

مفت

فیس/بقایاجات 0.50 فیصد یا 25 روپے فی انسٹرومنٹ (جو کم ہو)

۲۔ کلکیشن اور دیگر خدمات

(الف) کلکیشن کلین چیک / DD (FBC) ڈیمانڈ ڈرافٹ کے لیے غیر ملکی بل

(i) کلکیشن چارجز (کلین چیک)

ڈالر انسٹرومنٹ: (کم از کم 25 امریکی ڈالر + کرسپانڈنٹ چارجز + کوریئر چارجز)

دیگر کرنسی انسٹرومنٹ: انسٹرومنٹ کا 0.3 فیصد، کم از کم - 400/- روپے، زیادہ سے زیادہ - 1,500/-

روپے + کوریئر چارجز + غیر ملکی کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق (اگر ہوں)۔

اصل کے مطابق

(ii) غیر ملکی کلین چیکس واپسی کے چارجز

(ب) مقامی بلز کی کلکیشن / (کلین چیک) LBC

(ج) کلکیشن کی بلا ادائیگی پر واپسی پر آنے والی صاف اشیاء (مقامی)

(د) ایس بی پی / این بی پی کے چیک کا اجراء

(ر) چیک واپس ہونے کے ایڈمنسٹریٹو چارجز

200/- روپے (فلیٹ) بشمول کوریئر چارجز

کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق

500/- روپے (فلیٹ)

اندرونی کلیئرنگ کیش چیک - 500/- روپے (فلیٹ)

بیرونی کلیئرنگ غیر ملکی کلین چیکس: مفت

375/- روپے فی چیک / انسٹرومنٹ

(س) خصوصی کلیئرنگ چارجز بذریعہ این آئی ایف ٹی (بشمول چیک واپسی

کے چارجز اگر کوئی ہیں)

ص) ڈپلیکیٹ ڈیبٹ/کریڈٹ ایڈوانس، L/Cs SWIFT میسرز

وغیرہ کی اضافی کاپیوں کی فراہمی

ط) ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

ع) لوس چیکس کا اجرا (برانچ مینیجر کی منظوری سے مشروط)

ف) آڈیٹرز کے لیے بیلنس کی تصدیق

ق) کامیاب درخواست کی سبسکریپشن پر سروس چارجز
(میکرز کو جاری کرنا ہے)

ک) اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز

گ) ٹیکس سرٹیفکیٹ کے اجراء کے چارجز

ل) بینک کے ساتھ کاروباری معاملات سے متعلق کسی بھی دوسرے
قسم کے سرٹیفکیٹ کا اجراء

م) ہولڈ میل چارجز

ن) طلبہ کیسز کے رجسٹریشن/پرمت

و) چیک بکس کا اجراء

اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ

اسلامی خیر کرنٹ اکاؤنٹ

اسلامی سہولت اکاؤنٹ

اسلامی بچت اکاؤنٹ

ہ) مقامی امریکی ڈالر کلیئرنگ

(i) آؤٹ ورڈ:

(ii) ان ورڈ:

ء) غیر ملکی زرمبادلہ تبدیلی

ی) اسٹینڈنگ انسٹرکشنز

-/50 روپے فی آئٹم

-/35 روپے (بشمول ایف ای ڈی)

یہ سہولت میسر نہیں ہے۔

مفت

بینک اسلامی کے ذریعے بھیجی گئی رقم کا 0.50 فیصد تک۔

کم از کم -/15,000 روپے

کوئی نہیں

مفت

-/200 روپے فی سرٹیفکیٹ

-/1,000 روپے سالانہ (قابل وصول چھ ماہ یا اس سے کم)

-/2,000 روپے سالانہ

پہلی چیک بک مفت (دس صفحوں والی) بشرطیکہ کسٹمر 30 دن کے اندر
چیک بک وصول کر لے بصورت دیگر -/10 روپے فی صفحہ کے حساب
سے چارج کیا جائے گا۔ اگلی چیک بک کا اجراء -/10 روپے فی صفحہ۔

پروسیسنگ چارجز -/5 امریکی ڈالر فی انسٹرومنٹ

فارن کرنسی کیش جمع کرنے کے 15 دن کے اندر انورڈ کلیئرنگ کے

ذریعے نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارجز، بصورت دیگر مفت

امریکی ڈالر کے لیے، فارن کرنسی کیش جمع کرانے کے 15 دن کے

اندر کنورژن/ٹرانسفر کے ذریعے نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارجز

بصورت دیگر مفت

امریکی ڈالر کے علاوہ باقی تمام غیر ملکی کرنسیوں کے لیے غیر ملکی کرنسی

نقد جمع کرانے کے 90 دنوں کے اندر کنورژن / ٹرانسفر کے ذریعے نکالی

گئی رقم پر 0.50 فیصد چارجز، بصورت دیگر مفت

-/90 روپے فی انسٹرکشن LCY اکاؤنٹس کے لیے، اور 1 امریکی

ڈالر یا اس کے مساوی دوسری کرنسی کے FCY اکاؤنٹس کے لیے

اسٹینڈنگ انسٹرکشن کی فیس معمول کے ترسیلات زر کے چارجز

(اگر کوئی ہوں) کے علاوہ وصول کی جائیں گی۔

100/- روپے فی آکٹم (یا اصل چارجز، جو زیادہ ہوں)	
200/- روپے فی کسٹمر رپورٹ	
مفت	
8/- روپے فی بل یا وقتاً فوقتاً SBP/PBA کے دیئے گئے مشورے کے مطابق (بل کی رقم میں شامل)	
400/- فی صفحہ (لیف) اور زیادہ سے زیادہ -2,000 روپے مقامی انسٹرومینٹس کے لیے؛ ایف سی انسٹرومینٹس کے لیے اصل کرسپانڈنٹ چارجز	
300/- روپے فی انسٹنس	
مفت	
مفت	
مفت	
سرماہ کاری کی رقم کا 0.25 فیصد اور CDC چارجز اصل کے مطابق کم از کم -2,499 روپے، زیادہ سے زیادہ -4,999 روپے۔	
100/- روپے (فلیٹ)	
350/- روپے فی ٹرانزیکشن	
350/- روپے فی ٹرانزیکشن + CDC چارجز اصل کے مطابق	
کوئی چارجز نہیں	
کوئی چارجز نہیں	
کوئی چارجز نہیں	
کوئی چارجز نہیں	
کوئی چارجز نہیں	
اصل	
اصل	
اصل	
اصل	

شہروں کے درمیان کلیئرنگ بذریعہ (NIFT)	
الف-الف) کریڈٹ رپورٹ چارجز / CIB آن لائن چارجز	
الف-ب) ای-اسٹیٹمنٹس	
الف-ج) یوٹیلٹی بل ادائیگی	
الف-د) اسٹاپ پیمنٹ چارجز	
الف-ر) پرانے ریکارڈ کی معلومات کے چارجز (برانچ مینیجر کی پیشگی منظوری سے مشروط)	
الف-س) ایڈریس کی تبدیلی	
الف-ص) آن لائن ٹرانزیکشنز	
i) کیش جمع کرانا	
ii) کیش نکالنا	
الف-ط) انویسٹر رپورٹ فولیو سکیورٹیز: (آئی پی ایس) اکاؤنٹ	
i) سالانہ ہولڈنگ چارجز (ماہانہ وصولی)	
ii) اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	
iii) ٹرانزیکشن چارجز سیل/پریچیز	
iv) سکیورٹی موومنٹ	
الف-ع) اسکرپس ایکویٹی ٹریڈنگ	
i) اکاؤنٹ کھولنے کے چارجز	
الف) افراد کے لیے:	
ب) کارپوریٹ کے لیے:	
ii) (شیر/سکیورٹی)	
-199.99 روپے تک:	
-200 روپے سے -399.99 روپے تک:	
-400 روپے اور اس سے زائد:	
iii) کسٹومیل چارجز (سالانہ)	
الف) شیرز کے لئے (صرف شریعت کے مطابق):	
ب) TFCs کے لئے (صرف شریعت کے مطابق):	
ج) حقوق کے لئے (صرف شریعت کے مطابق):	
iv) شیرز ٹرانسفر چارجز: (فی شیر)	

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

(v) شیئرز پلج چارجز (فی شیئر)

(vi) NCCPL چارجز (فی شیئر)

(vii) UIN چارجز (سالانہ)

الف) افراد کے لیے:

ب) کارپوریٹ کے لیے:

(viii) CDC ذیلی اکاؤنٹ کی فیس (سالانہ)

۳۔ کیش مینجمنٹ اور ایمپلائئی بینکنگ سروس چارجز

”کیش مینجمنٹ پروڈکٹس (وصولی اور ادائیگی) کے تمام چارجز کا فیصلہ بینک اور کسٹمر کے درمیان معاہدے کے ذریعے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر کیا جائے گا“

12,000/- روپے (فی کیس) بشمول FED (ایف ای ڈی)

اصل کے مطابق

500/- روپے

ب) ایمپلائئی بینکنگ کی خدمات - موٹر سائیکل اور پائیدار اشیاء کی فنانسنگ

i) درخواست کی فیس اور پروسیسنگ چارجز

ii) دستاویزات کے چارجز

iii) ڈپلیکیٹ شیڈول / قانونی دستاویزات کی نقول

۴۔ ڈیجیٹل ڈیلیوری چینلز

الف) اجراء / سالانہ سبسکرپشن اور تبدیلی (کارڈز کے لیے)

2,900/- روپے

4,000/- روپے

1,800/- روپے

مفت

170/- روپے ماہانہ یا 2,000/- روپے سالانہ

مفت

i) کلاسک ڈیبٹ ماسٹر کارڈ:

ii) ٹائمنیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ:

iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ:

iv) انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل ایپ:

v) ایس ایم ایس بینکنگ سروس:

vi) ای سٹیٹمنٹ چارجز:

ب) بینک اسلامی ڈیبٹ کارڈز - فی ٹرانزیکشن چارجز

i) پی او ایس (پوائنٹ آف سیل) خریداری

الف) مقامی پی او ایس پر بینک اسلامی کارڈ

ب) بین الاقوامی پی او ایس پر بینک اسلامی کارڈ

ii) نقد رقم نکالنا

الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ب) 1 لنک اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ج) رسید پر تنگ چارجز

د) بین الاقوامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

مفت

رقم کا 4.00 فیصد

مفت

35/- روپے

6/- روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.00 فیصد

(iii) ڈیبٹ کارڈ پر انٹرنیٹ شاپنگ

- الف) مقامی انٹرنیٹ مرچنٹس پر بینک اسلامی کارڈ
ب) بین الاقوامی انٹرنیٹ مرچنٹس پر بینک اسلامی کارڈ

مفت
رقم کا 4.00 فیصد

(iv) بیلنس اکوآری

- الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ
ب) 1 لنک اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ
ج) بیلنس اکوآری رسید کی پرنٹنگ چارجز
د) بین الاقوامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

مفت
6/- روپے
6/- روپے
350/- روپے

(v) IBFT (انٹر بینک فنڈز کی منتقلی)

- الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم کے ذریعے
ب) انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے
ج) موبائل ایپ کے ذریعے
د) راست

ماہانہ -/25,000 روپے تک مفت۔
ایک ماہ میں -/25,000 روپے سے زائد رقم پر 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو کم ہو

مفت

(vi) بلز اور ادائیگیاں

- الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم کے ذریعے
ب) انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے
ج) موبائل ایپ کے ذریعے
د) رابطہ مرکز

مفت
مفت
مفت
مفت

(vii) 1 بل

الف) 1 بل ٹرانزیکشن

10/- روپے

(ج) تنازعہ (ڈسپیوٹ) پروسیسنگ چارجز (فی ٹرانزیکشن):

(i) دستاویزات بازیافت کرنے کے چارجز:

200/- روپے
1,000/- روپے

الف) مقامی تنازعہ ٹرانزیکشنز:

ب) بین الاقوامی تنازعہ ٹرانزیکشنز:

(ii) غلط تنازعات:

الف) فی ٹرانزیکشن چارجز:

1,000/- روپے

(iii) ثالثی چارجز:

الف) مقامی ٹرانزیکشنز:

500/- امریکی ڈالر یا مساوی

ب) بین الاقوامی چارجز:

500/- امریکی ڈالر یا مساوی

(د) ون ٹچ بینکنگ:

(ا) ون ٹچ بینکنگ:

مفت

ب) بینک کے اندر فنڈز کی منتقلی:

مفت

مفت	(ج) آئی بی ایف ٹی برانچ کاؤنٹر:
مفت	(د) یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی:
مفت	(ر) موبائل ٹاپ اپ:
مفت	(س) پے آرڈر:

(ر) کال سینٹر / آئی وی آر (IVR):

مفت	(الف) اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (نیا/پرانا):
مفت	(ب) ای-اسٹیٹمنٹ کی درخواست:
200/- روپے	(ج) بیلنس / ریفرنس سرٹیفکیٹ:
مفت	(د) پے آرڈر کی درخواست:
مفت	(ر) بینک کے اندر فنڈز کی منتقلی:
مفت	(س) ڈپازٹ اکاؤنٹ سے فیسٹیٹی اکاؤنٹ کو ادائیگی:
مفت	(ص) یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی:

۵۔ فنانسنگ

(الف) کنزیومر فنانس

(الف-الف) آٹو فنانس

(i) نئی گاڑی (فنانسنگ 10 ملین روپے تک)

- درخواست فیس:
- 2,449/- روپے تک فی درخواست گزار / کسٹمر (FED شامل نہیں) (ناقابل واپسی).
- اصل کے مطابق
- ضروری نہیں
- دستاویزات اور پروسیسنگ:
- تشخیص:

(ii) نئی گاڑی (10 ملین روپے سے زیادہ لیکن 50 ملین روپے سے کم کی فنانسنگ)

- درخواست فیس:
- 2,449/- روپے تک فی درخواست گزار / کسٹمر (FED شامل نہیں) (ناقابل واپسی).
- اصل کے مطابق
- ضروری نہیں
- دستاویزات اور پروسیسنگ:
- تشخیص:

(iii) پرانی (مقامی / درآمد شدہ) گاڑی (فنانسنگ 10 ملین روپے تک)

- درخواست فیس:
- 2,449/- روپے تک فی درخواست گزار / کسٹمر (FED شامل نہیں) (ناقابل واپسی).
- اصل کے مطابق
- اصل کے مطابق
- دستاویزات اور پروسیسنگ:
- تشخیص:

(iv) پرانی (مقامی / درآمد شدہ) گاڑی (10 ملین سے زیادہ لیکن 50 ملین روپے سے کم کی فنانسنگ)

- درخواست فیس:
- 2,449/- روپے تک فی درخواست گزار / کسٹمر (FED شامل نہیں) (ناقابل واپسی).
- اصل کے مطابق
- اصل کے مطابق
- دستاویزات اور پروسیسنگ:
- تشخیص:

(v) مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے چارجز

2000cc تک کی ہلکی گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے لیے منظور شدہ چارجز		2000cc سے اوپر کی ہلکی گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے لیے منظور شدہ چارجز	
تفصیل	چار جز	تفصیل	چار جز
شہر کی حدود میں	40,000/- روپے	شہر کی حدود میں	55,000/- روپے
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	45,000/- روپے	شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	60,000/- روپے
صوبے سے باہر	50,000/- روپے	صوبے سے باہر	65,000/- روپے
2000cc تک کی ہلکی گاڑیوں کی ضبطی کے منظور شدہ چارجز برائے NR/ گم شدہ (اسکپڈ) گاڑیاں			
تفصیل	چار جز		
شہر کی حدود میں	50,000/- سے 60,000/- روپے		
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	55,000/- سے 65,000/- روپے		
صوبے سے باہر	60,000/- سے 70,000/- روپے		
2000cc سے اوپر کی ناقابل بازیافت / گمشدہ (اسکپڈ) بھاری گاڑیاں			
چار جز ہر معاملے کی بنیاد پر - 50,000/- سے 100,000/- تک مختلف ہو سکتے ہیں			
1 سال + ناقابل بازیافت / گمشدہ (اسکپڈ) بھاری گاڑیاں			
چار جز ہر معاملے کی بنیاد پر - 50,000/- سے 150,000/- روپے تک مختلف ہو سکتے ہیں			
ہائیکس (EBS)			
شہر کی حدود میں	6,000/- روپے		
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	8,000/- روپے		
صوبے سے باہر	10,000/- روپے		

(vi) رقم کی ادائیگی کے بعد گاڑی کی تبدیلی

(vii) اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت قبل از وقت خریداری کی صورت میں

(viii) ٹریکر چارجز (تنصیب، نگرانی کی فیس اور دیگر چارجز):

(ix) اضافی چارجز:

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

• گاڑیوں کی سٹوریج کے چارجز:

• قانونی اور انتظامی چارجز:

• دوبارہ حاصل شدہ گاڑی کے لیے تشخیصی چارجز:

• آمدنی کے تخمینہ کے چارجز:

1,500/- روپے تک (بشمول FED)

1,000/- روپے

1,500/- روپے

• این او سی کی دوبارہ تصدیق کے چارجز:

• کسٹمر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دوبارہ تصدیق کے چارجز:

• آفر لیٹر جاری ہونے کے بعد گاڑی کی تبدیلی:

نوٹ: فنانسنگ کی حدود اور گاڑیوں کی اقسام قابل اطلاق SBP کے ضوابط کے تابع ہیں

الف-ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن)

i درخواست:

• پروسیسنگ چارجز:

ii تشخیص (مکان / فلیٹ)

• 10 ملین روپے تک کی فنانسنگ:

• 10 ملین سے زیادہ پراپرٹی کی قیمت:

• BOQ تصدیق:

• BOQ ٹرانچ وزٹ:

• وکیل کی فیس:

• آمدنی کا تخمینہ:

• بیرونی ہجمنسیوں کے وزٹ کے چارجز:

iii مشارکہ دستاویزات:

• SLB کی صورت میں (اضافی چارجز):

iv اضافی مشارکہ یونٹ قیمت قبل از وقت خریداری کی صورت میں:

• اجراء کے پہلے سال کے اندر ادائیگی پر:

• اجراء کے پہلے سال کے بعد ادائیگی پر:

v بیلون ادائیگی کا اختیار:

• ہر 6 ماہ میں ایک بار بیلون رقم ادا کر سکتے ہیں، جو کم از کم 3 اقساط کے برابر ہونی چاہیے۔

اصل کے مطابق

vi ضمنی اخراجات:

الف-ج) تجارتی رہن

i درخواست:

• پروسیسنگ چارجز:

• درخواست کی منظوری کی صورت میں، پروسیسنگ چارجز میں سے

10,000/- روپے کی کٹوتی کی جائے گی۔

(10,000/- روپے) بشمول FED) ناقابل واپسی

10 ملین روپے تک کی فنانسنگ، فنانسنگ کی رقم کا 0.4 فیصد

10 ملین روپے سے زیادہ اور 25 ملین روپے تک کی فنانسنگ،

فنانسنگ کی رقم کا 0.35 فیصد یا -/40,000 روپے (جو زیادہ ہو)

25 ملین روپے سے زیادہ کی فنانسنگ، فنانسنگ کی رقم

کا 0.25 فیصد یا -/62,500 روپے (جو زیادہ ہو)

ii تشخیص (گھر/فلیٹ):

• 10 ملین روپے تک کی فنانسنگ:

(4,500/- روپے) (زمین: -/4,000 روپے)

- 10 ملین روپے سے زیادہ ویلیو کی پراپرٹی:
- BOQ تصدیق:
- BOQ ٹرانچ وزٹ:
- وکیل کی فیس:
- آمدنی کا تخمینہ:
- 9,000/- روپے
- 3,000/- روپے
- 3,000/- روپے فی وزٹ
- اصل کے مطابق
- 7,000/- روپے

- iii) مشارکہ دستاویزات:
- iv) جزوی / مکمل قبل از وقت خریداری:
- پہلے 3 سالوں کے اندر جزوی/مکمل قبل از وقت خریداری کی صورت
- میں اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت:
- 5 فیصد
- پہلے 3 سالوں کے بعد جزوی/مکمل قبل از وقت خریداری کی صورت میں
- اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت:
- 3 فیصد
- اصل کے مطابق
- v) ضمنی اخراجات:

الف-د) روشنی آسان (قابل تجدید توانائی کے لیے اسلامی مالیاتی سہولت)

- i) پروسیسنگ فیس:
- ii) دستاویزات کے چارجز:
- iii) وینڈر سروے چارجز:
- iv) نیٹ میٹرنگ چارجز:
- 6,000/- روپے (بشمول FED)
- اصل کے مطابق
- اصل کے مطابق
- اصل کے مطابق

الف-ر) مکافل

- i) پہلے سال میں استفادہ کنندہ (سینیفٹری) کی تبدیلی:
- ii) پہلے سال کے بعد استفادہ کنندہ (سینیفٹری) کی تبدیلی:
- مفت
- 1,000/- روپے فی کیس (بشمول FED)

الف-س) اسلامی محفوظ پرسنل فنانس

- i) پروسیسنگ فیس:
- ii) دستاویزات کے چارجز:
- iii) تشخیصی چارجز:
- 10,000/- روپے
- اصل کے مطابق
- اصل کے مطابق

ب) کارپوریٹ / ایس ایم ای فنانسنگ / فلیٹ فنانسنگ

ب-الف) گاڑیاں

- i) نئی گاڑیاں:
- پروسیسنگ فیس:
- 10 ملین روپے تک: 5,000/- روپے
- 10 ملین روپے سے زیادہ: 10,000/- روپے
- اصل کے مطابق
- دستاویزات کے چارجز:

(ii) پرانی گاڑیاں (مقامی / امپورٹڈ):

• پروسیسنگ فیس:

10 ملین روپے تک: -/5,000 روپے

10 ملین روپے سے زیادہ: -/10,000 روپے

اصل کے مطابق

-/5,000 روپے تک فی گاڑی

• دستاویزات کے چارجز:

• تشخیصی چارجز:

(iii) وزیر اعظم کامیاب جوان:

• پروسیسنگ فیس:

100/- روپے

اصل کے مطابق

• دیگر چارجز:

ب۔ب) دیگر آلات

(i) پروسیسنگ فیس:

-/15,000 روپے

اصل کے مطابق

(ii) دستاویزی چارجز:

(iii) تشخیصی چارجز:

(الف) پروسیسنگ، اسٹرکچرنگ، اور ایڈوائزری فیس: تجدید کی صورت میں، یہ مختصر مدتی سہولت (فنڈ/نان فنڈ) پر لاگو ہوگی

ایس ایم ای کسٹمرز کے لیے		کارپوریٹ کسٹمرز کے لیے	
سہولت (ملین روپے میں)	**کم از کم فیس (روپے)	سہولت (ملین روپے میں)	**کم از کم فیس (روپے)
10.000 تک	5,000	50.000 تک	20,000
25.000 تک	10,000	100.000 تک	40,000
35.000 تک	15,000	200.000 تک	75,000
50.000 تک	20,000	300.000 تک	100,000
75.000 تک	25,000	400.000 تک	125,000
100.000 تک	40,000	500.000 تک	150,000
150.000 تک	50,000	750.000 تک	200,000
200.000 تک	75,000	1,000.000 تک	300,000
		1,500.000 تک	350,000
		2,000.000 تک	400,000
		2,500.000 اور اس سے زیادہ	500,000

*پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر کیس کی منظوری یا عدم منظوری کے باوجود پیشگی لاگو ہوگی۔

**کسٹمر کی رضامندی کے مطابق زیادہ فیس وصول کی جاسکتی ہے۔

ب) قبل از وقت خاتمے پر اضافی قیمت (اجارہ اور ڈسٹنگ مشارکہ معاہدے کے مطابق)

۶۔ فنانشنگ پر متفرق چارجز

الف) متفرق چارجز (یعنی بینک اسلامی دستاویزات، دستاویزات کی حفاظت، سکیورٹی کا تحمینہ اور دیکھ بھال کا جائزہ وغیرہ پر آنے والی اصل لاگت کے مطابق چارج کیے جاتے ہیں)

ب) گروی کے عوض ڈیلیوری آرڈر کا اجراء:

-/500 روپے فی ڈیلیوری آرڈر

ج) سرچ رپورٹ چارجز:

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت کے ساتھ -/500 روپے

د) گودام کا کرایہ / لیز پر دیے گئے اثاثوں کے معائنے کے چارجز:

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت

ر) گودام اسٹاف کیپر/چوکیدار:

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت

س) گودام کے معائنے کے چارجز:

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت

ص) ڈیلیوری چارجز (اگر گوداؤن کیپر تعینات نہیں کیا جاتا ہے تو

کنوینس چارجز بھی وصول کیے جائیں گے):

بینک اسلامی کی طرف سے اصل قیمت

ع) دوسرے بینکوں کے حق میں این او سی جاری کرنا:

-/2,500 روپے (فلیٹ)

۷۔ سیف ڈپازٹ لاکرز

i) چابی کی ضمانت:

-/3,500 روپے (قابل واپسی)

ii) لاکر کرایہ (سالانہ) پیشگی وصول کیا جائے گا۔

• چھوٹا:

-/4,000 روپے سالانہ اگر -/35,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ

کے طور پر رکھے جائیں تو مفت *

• درمیانہ:

-/6,000 روپے سالانہ

اگر -/50,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھے جائیں تو مفت *

• بڑا:

-/8,000 روپے سالانہ

اگر -/75,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھے جائیں تو مفت *

* لاکرز صرف سیکورٹی ڈپازٹ کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، تاہم، کرایہ کی بنیاد پر پہلے سے جاری کردہ لاکرز اگلے مشورہ تک جاری رہیں گے۔

* (سیکورٹی ڈپازٹ کی رقم مضاربہ پر مبنی منافع بخش اکاؤنٹ میں رکھی جائے گی)

اصل کے مطابق

iii) لاکر توڑنے کے چارجز:

۸۔ تجارتی خدمات

الف) درآمدات

الف) غیر ملکی اور مقامی لیٹر آف کریڈٹ اوپننگ

- (i) کم از کم چارجز۔
2,200/- روپے
- (ii) شرعی نقطہ نظر سے، بینک L/C کھولنے سے متعلق خدمات جیسے دستاویزات، کریڈٹ کا تخمینہ، خط و کتابت، اکاؤنٹ کی دیکھ بھال، نگرانی، وغیرہ کی فیس چارج کر سکتا ہے۔
- (iii) تمام L/C کی رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/4,000 روپے (پہلی سہ ماہی میں) فی ہر 1 ملین روپے (یا اس کا حصہ) اور -/2,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے) فی 1 ملین روپے اضافی چارجز ہوں گے۔
- (iv) 1,500 روپے (فلیٹ) فی ترمیم درجہ بالا سروس چارجز کے ساتھ وصول کیے جائیں گے، اگر ترمیم، رقم میں اضافہ یا L/C کی مدت میں توسیع پر مبنی ہو۔
- (v) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔
- (vi) موجودہ لیٹر آف کریڈٹ میں فائدہ اٹھانے والے کی تبدیلی کی صورت میں سلیب کے مطابق L/C کا کمیشن نئے L/C کے طور پر چارج کیا جائے گا۔
- (vii) لیٹر آف کریڈٹ سروس چارجز کے لیے سلیب

ایل سی کی رقم	یہاں سے	یہاں تک	پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
	سے	800,000	3,200	1,600
	800,001	1,000,000	4,500	2,250
	1,000,001	1,500,000	6,250	3,125
	1,500,001	2,000,000	8,750	4,375
	2,000,001	2,500,000	11,250	5,625
	2,500,001	3,000,000	13,750	6,875
	3,000,001	3,500,000	16,250	8,125
	3,500,001	4,000,000	18,750	9,375
	4,000,001	4,500,000	21,250	10,625
	4,500,001	5,000,000	23,750	11,875
	5,000,001	5,500,000	26,250	13,125
	5,500,001	6,000,000	28,750	14,375
	6,000,001	6,500,000	31,250	15,625
	6,500,001	7,000,000	33,750	16,875

ایل سی کی رقم	پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
یہاں سے	یہاں تک	
7,000,001	7,500,000	18,125
7,500,001	8,000,000	19,375
8,000,001	8,500,000	20,625
8,500,001	9,000,000	21,875
9,000,001	9,500,000	23,125
9,500,001	10,000,000	24,375
10,000,001	10,500,000	25,625
10,500,001	12,500,000	28,750
12,500,001	15,000,000	34,375
15,000,001	17,500,000	40,625
17,500,001	20,000,000	46,875
20,000,001	22,500,000	53,125
22,500,001	25,000,000	59,375
25,000,001	27,500,000	65,625
27,500,001	30,000,000	71,875
30,000,001	32,500,000	78,125
32,500,001	35,000,000	84,375
35,000,001	37,500,000	90,625
37,500,001	40,000,000	96,875
40,000,001	42,500,000	103,125
42,500,001	45,000,000	109,375
45,000,001	47,500,000	115,625
47,500,001	50,000,000	121,875
50,000,001	52,500,000	128,125
52,500,001	55,000,000	134,375
55,000,001	57,500,000	140,625

ایل سی کی رقم	پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ		
			یہاں سے	یہاں تک
57,500,001	293,750	146,875	60,000,000	
60,000,001	306,250	153,125	62,500,000	
62,500,001	318,750	159,375	65,000,000	
65,000,001	331,250	165,625	67,500,000	
67,500,001	343,750	171,875	70,000,000	
70,000,001	356,250	178,125	72,500,000	
72,500,001	368,750	184,375	75,000,000	
75,000,001	381,250	190,625	77,500,000	
77,500,001	393,750	196,875	80,000,000	
80,000,001	406,250	203,125	82,500,000	
82,500,001	418,750	209,375	85,000,000	
85,000,001	431,250	215,625	87,500,000	
87,500,001	443,750	221,875	90,000,000	
90,000,001	456,250	228,125	92,500,000	
92,500,001	468,750	234,375	95,000,000	
95,000,001	481,250	240,625	97,500,000	
97,500,001	493,750	246,875	100,000,000	

ب) معیادی (Usance) لیل سی کے تحت بلوں کی منظوری (غیر ملکی اور مقامی)

(i) کم از کم چارجز: 2,000/- روپے

(ii) تمام منظوری کی رقم جو 100 ملین سے زائد ہوگی اس پر -/750 روپے (ماہانہ) فی 1 ملین روپے (یا اس کا حصہ) اضافی سروس چارجز ہوں گے۔

(iii) کارپوریٹ کسٹمرز کے لیے چارجز بینک اور کسٹمر کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

(iv) اگر بل کی مدت لیل سی کی معیاد کے اندر ہو تو کوئی منظوری چارجز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بل کی ادائیگی لیل سی کی معیاد ختم ہونے کے بعد واجب ہو تو، لیل سی کی معیاد ختم ہونے کی تاریخ سے بل کی اصل ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مذکورہ بالا سروس چارجز لاگو ہوں گے۔

(v) یوسنس (Usance) لیل سی سروس چارجز کے تحت بلوں کی منظوری کے سلیب:

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں سے	یہاں تک
975.00	500,001	800,000
1,350.00	800,001	1,000,000
1,875.00	1,000,001	1,500,000
2,625.00	1,500,001	2,000,000
3,375.00	2,000,001	2,500,000
4,125.00	2,500,001	3,000,000
4,875.00	3,000,001	3,500,000
5,625.00	3,500,001	4,000,000
6,375.00	4,000,001	4,500,000
7,125.00	4,500,001	5,000,000
7,875.00	5,000,001	5,500,000
8,625.00	5,500,001	6,000,000
9,375.00	6,000,001	6,500,000
10,125.00	6,500,001	7,000,000
10,875.00	7,000,001	7,500,000
11,625.00	7,500,001	8,000,000
12,375.00	8,000,001	8,500,000
13,125.00	8,500,001	9,000,000
13,875.00	9,000,001	9,500,000
14,625.00	9,500,001	10,000,000
15,375.00	10,000,001	10,500,000
17,250.00	10,500,001	12,500,000
20,625.00	12,500,001	15,000,000

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں تک	یہاں سے
24,375.00	17,500,000	15,000,001
28,125.00	20,000,000	17,500,001
31,875.00	22,500,000	20,000,001
35,625.00	25,000,000	22,500,001
39,375.00	27,500,000	25,000,001
43,125.00	30,000,000	27,500,001
46,875.00	32,500,000	30,000,001
50,625.00	35,000,000	32,500,001
54,375.00	37,500,000	35,000,001
58,125.00	40,000,000	37,500,001
61,875.00	42,500,000	40,000,001
65,625.00	45,000,000	42,500,001
69,375.00	47,500,000	45,000,001
73,125.00	50,000,000	47,500,001
76,875.00	52,500,000	50,000,001
80,625.00	55,000,000	52,500,001
84,375.00	57,500,000	55,000,001
88,125.00	60,000,000	57,500,001
91,875.00	62,500,000	60,000,001
95,625.00	65,000,000	62,500,001
99,375.00	67,500,000	65,000,001
103,125.00	70,000,000	67,500,001
106,875.00	72,500,000	70,000,001
110,625.00	75,000,000	72,500,001
114,375.00	77,500,000	75,000,001
118,125.00	80,000,000	77,500,001
121,875.00	82,500,000	80,000,001
125,625.00	85,000,000	82,500,001

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں تک	یہاں سے
129,375.00	87,500,000	85,000,001
133,125.00	90,000,000	87,500,001
136,875.00	92,500,000	90,000,001
140,625.00	95,000,000	92,500,001
144,375.00	97,500,000	95,000,001
148,125.00	100,000,000	97,500,001

(ج) لیٹر آف کریڈٹ - متفرق (غیر ملکی + مقامی):

- i) لیٹر آف بل کی توثیق / شپنگ گارنٹی کا اجراء۔
- ii) درآمدی معاہدے کی رجسٹریشن / کلکیشن کی بنیاد پر:
- iii) رجسٹریشن معاہدے میں ترمیم (رقم میں کسی بھی اضافے کے مابوجود):
- iv) دستاویزات کی ہنڈلنگ چارجز (کلکیشن، اوپن اکاؤنٹ اور ایڈوانس ادائیگی)
- v) کرمیٹ انفارمیشن رپورٹ بشمول غیر ملکی سپلائرز/خریدیروں کی کرمیٹ رپورٹ:
- vi) تمام درآمدی بلز کی ریٹائرمنٹ
- vii) برآمدی بلز کی بغیر ادائیگی واپسی:
- viii) مراسلاتی اخراجات کی واپسی:
- ix) درآمدی لیل سی / کنٹریکٹ رجسٹریشن پر ترسیل:
- x) امپورٹ کلکیشن، اوپن اکاؤنٹ اور ایڈوانس ادائیگی کی ریٹائرمنٹ:
- xi) لیٹر آف کریڈٹ کی منسوخی:
- xii) تضاد کی فیس:
- xiii) کسی بھی بزنس/ایکسپورٹ/امپورٹ سرٹیفکیٹ اور فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء
- xiv) لیل سی کی دوبارہ توثیق چارجز:
- xv) معیاد ختم ہونے والی GDS کے عوض SBP کی جانب سے امپورٹس ایڈوانس اور اوپن اکاؤنٹ کی منظوری:
- xvi) PAD پر نفع (اسلامک موڈ کے ذریعے):
- xvii) EIF کے تحت نمونہ کیس / FOC ترسیل:
- xviii) موثر معاہدے کی منسوخی کے چارجز:

(ب) اندرون ملک تجارت:

- i) کم از کم چارجز:
- ii) تمام LC کی رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/4,000 روپے (پہلی سے ماہی) فی ہر 1 ملین روپے (یا اس کا کچھ حصہ) اور -/2,000 روپے (بعد کی سے ماہی کے لیے) اضافی سروس چارجز ہوں گے۔

(iii) ترمیم کی صورت میں اگر رقم میں اضافہ یا LC کی معیاد میں توسیع شامل ہو تو فی ترمیم -/1500 روپے (فلیٹ) کے ساتھ اوپر دیئے گئے چارجز بھی وصول کئے جائیں گے۔

(iv) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔
(ج) برآمدات:

الف) لیٹر آف کریڈٹ

(i) مشاورتی چارجز:

-/3,000 روپے (فلیٹ)

-/3,500 روپے (فلیٹ)

• بی آئی پی ایل کسٹمرز کے لیے مشاورتی چارجز:

• دیگر بینک کسٹمرز کے لیے مشاورتی چارجز:

(ii) ترمیم کی مشاورت:

-/2,000 روپے (فلیٹ)

-/2,250 روپے (فلیٹ)

• بی آئی پی ایل کسٹمرز کے لیے ترمیم:

• دیگر بینک کسٹمرز کے لیے ترمیم:

شریعت سے منظور شدہ طریقوں کے مطابق

-/1,000 روپے (فلیٹ)

-/1,500 روپے (فلیٹ)

(iii) L/C روپی بل کی گفت و شنید:

(iv) تصدیق:

(v) ایکسپورٹ ایل سی کی منتقلی:

-/1,000 روپے (فلیٹ)

(ب) اگر دستاویزات دوسرے مقامی بینکوں کو محدود لیٹر آف کریڈٹ کے تحت

گفت و شنید کے لیے بھیجی جاتی ہیں:

کلمہ کا 0.25 فیصد، کم از کم -/1,500 روپے فی فارم-ای

0.15 فیصد کم از کم -/2,000 روپے

(ج) آر اینڈ ڈی / ڈی ایل ٹی ایل کی ہینڈلنگ (ڈیوٹی ڈرا بیک کلیمز):

(د) دستاویزی کلیمشنز (مقامی):

(ر) وصولی کی بنیاد پر بھیجی گئی برآمدی دستاویزات کے عوض سروس چارجز، جہاں ادائیگی کا احاطہ

15 پیسہ فی 100 روپے کم از کم -/2,000 روپے یا وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ

-/1,500 فی کیس - ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی طرف سے وقتاً فوقتاً

کی گئی نظر ثانی کے تابع

-/80 روپے فی کیس - ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی طرف

سے وقتاً فوقتاً کی گئی نظر ثانی کے تابع

-/500 روپے (فلیٹ)

-/1,500 روپے (فلیٹ) فی کیس

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی NOC

-/1,000 روپے فی کیس

-/2,000 فی EE/EF

-/1,000 روپے فی EFE/EIF

-/1,000 روپے (فلیٹ) کے ساتھ کوریئر چارجز، اگر کوئی ہوں۔

-/1,000 (فلیٹ) فی کیس -

(ص) ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج (ای ڈی ایس) کیسز کی ہینڈلنگ

(ط) ڈپلیکٹ EPRC ضمیمہ A کے اجراء کے لیے سروس چارجز:

(ع) اسلامک ایکسپورٹ ری فنانس سکیم (IERS) کی پروسیسنگ فیس:

(ف) NOC-IERS برائے EE اسٹیٹمنٹ کے عوض استحقاق کے لیے:-

(ق) IERS حصہ اول کے تحت متبادل کیسز کی ہینڈلنگ:

(ک) EE/EF جمع کرانے اور تصدیق کے چارجز

(گ) BIPL کی EIF/EFE کی PSW میں منتقلی کی:

(ل) ایکسپورٹ ایل/سی پری ایڈوانس (بیشول L/C ترمیم)

(م) دوسرے بینکوں میں وصولی کے تحت درج برآمدی بلوں کی منتقلی:

0.15 فیصد کم از کم -/2,500 روپے

-/2,000 روپے

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی دستاویز

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی کیس

-/1,000 روپے (فلیٹ)

ن) ایکسپورٹ کی ایڈوانس پیمنٹ وصولی پر سروس چارجز:

و) ایکسپورٹ ایڈوانس پیمنٹ کے استعمال کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی منظوری

حاصل کرنے کے لیے سروس چارجز:

ہ) دستاویزات کی بغیر ادائیگی کے واپسی:

ء) محدود L/C کے تحت دیگر بینکوں کو گفت و شنید کے لیے بھیجے گئے دستاویزات:

ی) ای-فارم کی تصدیق کے لیے دوسرے بینکوں کو NOC:

د) لیٹر آف گارنٹی

-/3,000 روپے (فلیٹ)

i) لیٹر آف گارنٹی کے اجراء کے لیے کم از کم چارجز

ii) تمام گارنٹیز کی رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/8,000 روپے فی ہر ایک ملین (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ) + -/4,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے) اضافی سروس چارجز ہوں گے۔

iii) -/2,000 روپے (فلیٹ) فی ترمیم کے علاوہ اوپر کے مطابق سروس چارجز بھی لاگو ہوں گے، اگر ترمیم میں اضافہ، توسیع یا کسی بھی قسم کی شق میں ترمیم شامل ہو۔

-/1,000 روپے

iv) SWIFT کے علاوہ گارنٹی تصدیقی چارجز

v) LG کے اجراء کے وقت پیشگی سروس چارجز کاٹے جائیں گے۔

vi) بینکوں (مقامی / غیر ملکی / کرسپانڈنٹ) کی طرف سے جاری کردہ کاؤنٹر گارنٹیز کے تحت جاری کردہ گارنٹیز اور SBLC کے چارجز کا تعین ہر معاملے کی نوعیت کے مطابق بینک کی صوابدید پر کیا جاسکتا ہے۔

-/5,000 روپے (فلیٹ)

vii) کلیم ہینڈلنگ چارجز

viii) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

(ix) لیٹر آف گارنٹی کے لیے سلیب:

رقم کی حد	یہاں سے	یہاں تک	پہلی سہ ماہی کے چار جز	بعد کی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
سے	800,000	800,000	6,400	3,200
800,001	1,000,000	1,000,000	8,100	4,050
1,000,001	1,500,000	1,500,000	11,250	5,625
1,500,001	2,000,000	2,000,000	15,750	7,875
2,000,001	2,500,000	2,500,000	20,250	10,125
2,500,001	3,000,000	3,000,000	24,750	12,375
3,000,001	3,500,000	3,500,000	29,250	14,625
3,500,001	4,000,000	4,000,000	33,750	16,875
4,000,001	4,500,000	4,500,000	38,250	19,125
4,500,001	5,000,000	5,000,000	42,750	21,375
5,000,001	5,500,000	5,500,000	47,250	23,625
5,500,001	6,000,000	6,000,000	51,750	25,875
6,000,001	6,500,000	6,500,000	56,250	28,125
6,500,001	7,000,000	7,000,000	60,750	30,375
7,000,001	7,500,000	7,500,000	65,250	32,625
7,500,001	8,000,000	8,000,000	69,750	34,875
8,000,001	8,500,000	8,500,000	74,250	37,125
8,500,001	9,000,000	9,000,000	78,750	39,375
9,000,001	9,500,000	9,500,000	83,250	41,625
9,500,001	10,000,000	10,000,000	87,750	43,875
10,000,001	10,500,000	10,500,000	92,250	46,125
10,500,001	12,500,000	12,500,000	103,500	51,750
12,500,001	15,000,000	15,000,000	123,750	61,875
15,000,001	17,500,000	17,500,000	146,250	73,125
17,500,001	20,000,000	20,000,000	168,750	84,375
20,000,001	22,500,000	22,500,000	191,250	95,625
22,500,001	25,000,000	25,000,000	213,750	106,875
25,000,001	27,500,000	27,500,000	236,250	118,125
27,500,001	30,000,000	30,000,000	258,750	129,375

رقم کی حد	یہاں سے	یہاں تک	پہلی سہ ماہی کے چار جز	بعد کی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
30,000,001	32,500,000	281,250	140,625	
32,500,001	35,000,000	303,750	151,875	
35,000,001	37,500,000	326,250	163,125	
37,500,001	40,000,000	348,750	174,375	
40,000,001	42,500,000	371,250	185,625	
42,500,001	45,000,000	393,750	196,875	
45,000,001	47,500,000	416,250	208,125	
47,500,001	50,000,000	438,750	219,375	
50,000,001	52,500,000	461,250	230,625	
52,500,001	55,000,000	483,750	241,875	
55,000,001	57,500,000	506,250	253,125	
57,500,001	60,000,000	528,750	264,375	
60,000,001	62,500,000	551,250	275,625	
62,500,001	65,000,000	573,750	286,875	
65,000,001	67,500,000	596,250	298,125	
67,500,001	70,000,000	618,750	309,375	
70,000,001	72,500,000	641,250	320,625	
72,500,001	75,000,000	663,750	331,875	
75,000,001	77,500,000	686,250	343,125	
77,500,001	80,000,000	708,750	354,375	
80,000,001	82,500,000	731,250	365,625	
82,500,001	85,000,000	753,750	376,875	
85,000,001	87,500,000	776,250	388,125	
87,500,001	90,000,000	798,750	399,375	
90,000,001	92,500,000	821,250	410,625	
92,500,001	95,000,000	843,750	421,875	
95,000,001	97,500,000	866,250	433,125	
97,500,001	100,000,000	888,750	444,375	

۹۔ بین الاقوامی ترسیلات

(i) بیرونی ترسیلات

الف) FDD بشمول SWIFT Message

25 امریکی ڈالر (فلیٹ) یا دیگر کرنسیوں میں مساوی
اضافی چارجز:

امریکی ڈالر کے لیے، غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 15 دن کے اندر نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

امریکی ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں کے لیے غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 90 دن کے اندر نکالی گئی رقم پر 0.50 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

18.75 (فلیٹ) امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی
18.75 (فلیٹ) امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی
+ کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق

30 امریکی ڈالر (فلیٹ) یا اس کے مساوی، بشمول SWIFT/متعلقہ
بینک کے چارجز اصل کے مطابق + مقامی ٹیکسز اور ڈیوٹیز (جو لاگو ہو)
اضافی چارجز:

غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 15 دن کے اندر نکالی
گئی رقم پر 0.19 فیصد چارج ہوگا، بصورت دیگر مفت۔

امریکی ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں (FCY) کے لیے غیر ملکی
کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 90 دن کے اندر نکالی گئی رقم
پر 0.50 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

40 امریکی ڈالر فلیٹ یا اس کے مساوی + مقامی ٹیکس اور ڈیوٹیز
"OUR" کے بطور چارج کوڈ کے ساتھ بیرونی ترسیلات پر
پیشگی لاگو ہوں گے

جاری کردہ ٹریولرز چیک کی مالیت کا 1 فیصد

ہینڈلنگ چارجز: 55 روپے، OD خریداری کی شرح لاگو کی جائے
گی۔ اگر 21 دن کے اندر ادائیگی موصول نہ ہو تو 21 دن کی مدت
سے زائد ہر دن کے لیے ہر ہزار روپے پر 36 پیسے چیریٹی میں دیئے
جائیں گے، جیسا کہ کسٹمر کے پہلے سے دستخط شدہ معاہدے کے مطابق
(جو چیریٹی اکاؤنٹ میں جمع کیے جائیں گے)۔

ب) ڈپلیکیٹ FDD بشمول SWIFT Message
ج) SWIFT Message کے ذریعے FDD منسوخی

د) SWIFT کے ذریعے FTT

ه) SWIFT کے ذریعے FTT، 'OUR' کوڈ کی صورت میں

س) غیر ملکی (فارن) ٹریولرز چیک

ص) FDDs / TCs کی خریداری

15 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی فی پیغام (برانچ کی طرف سے وصول کیا جائے گا)

2,000/- روپے

1,000/- روپے

1,500/- روپے + سوئفٹ چارجز

(سوئفٹ چارجز (ترمیم اور انکوائری پیغامات)

(ع) Swift کے ذریعے LG کا اجراء

(ف) سوئفٹ کے ذریعے LG ترمیم

(ق) دوسرے بینک کو FCY ادائیگی کی منتقلی۔

(ii) اندرونی ترسیلات

الف) عمومی:

اصل کے مطابق چارجز (مرسل بینک + نوٹرو چارجز / مقامی ٹیکس جب لاگو ہو)۔

ایک سال کے اندر۔ مفت۔ ایک سال کی مدت کے بعد

500/- روپے ڈپلیکیٹ روپے

ب) ہوم ترسیلات

ج) ترسیلات زر اور سرٹیفکیٹس / دیگر دستاویزات

• خود کار طریقے سے رجسٹرڈ ای میل پر جاری:

• دستی طور پر جاری کیا گیا (پالیسی کے مطابق)

مفت

475/- روپے فی دستاویز 6 ماہ تک، 1200/- روپے فی دستاویز

6 ماہ سے زیادہ پرانا (برانچ کی طرف سے وصول کیا جائے گا)

10 امریکی ڈالر

(د) اندرونی واپسی ادائیگی کے چارجز

• ۱۔ ڈاک اور مواصلات

الف) کوریئر چارجز (تمام مقامات کے لیے)

(i) بین الاقوامی

(ii) اندرون ملک

(iii) مقامی (اسی شہر کے اندر)

7,000/- روپے یا اصل کے مطابق

100/- روپے فی 0.5 کلوگرام یا اصل کے مطابق (جو بھی زیادہ ہے)

60/- روپے فی 0.5 کلوگرام یا اصل کے مطابق (جو بھی زیادہ ہے)

ب) رجسٹرڈ پوسٹ

(i) بین الاقوامی

(ii) اندرون ملک

(iii) مقامی (اسی شہر کے اندر)

500/- روپے فی 0.5 کلوگرام۔

60/- روپے فی 0.5 کلوگرام۔

مفت

ج) سوئفٹ چارجز

2,000/- روپے	(i) لیٹر آف کریڈٹ - مکمل
1,000/- روپے	(ii) لیٹر آف کریڈٹ - مختصر
1,000/- روپے	(iii) لیٹر آف کریڈٹ - ترمیم
10 امریکی ڈالر (یا دوسری کرنسیوں میں اس کے مساوی)	(iv) سوئفٹ چارجز - بین الاقوامی (تجارت)

گ) RTGS چارجز

100,000/- روپے اور اس سے زیادہ کی رقم کے لیے (MT102)	مفت
1,000,000/- روپے اور اس سے زیادہ کی رقم کے لیے (MT103)	مفت

د) فیکس چارجز

اصل ISD کال ریٹس فی منٹ؛ کم از کم: -/25 روپے	(i) بین الاقوامی
اصل NWD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/15 روپے	(ii) اندرون ملک
مفت	(iii) مقامی

س) ٹیلی فون

اصل ISD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/50 روپے	(i) بین الاقوامی
اصل NWD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/25 روپے	(ii) اندرون ملک
مفت	(iii) مقامی

ا۔ BIPL اسٹاف کے لیے (صرف تنخواہ کا اکاؤنٹ)

مفت	1- پے آرڈر کا اجراء
مفت	2- DD کا اجراء
مفت	3- FTT کا اجراء
مفت	4- DD/PO منسوخی
مفت	5- ڈپلیکیٹ DD/PO
مفت	6- لاکرز (چھوٹے، درمیانے، بڑے)
مفت	7- پاکستان سے باہر نکالا گیا آؤٹ ورڈ بل برائے کلیکشن (OBC)
مفت	8- OBC (پاکستان میں نکالا گیا)
مفت	9- انورڈ بل برائے کلیکشن (IBC)
50/- روپے	10- آؤٹ ورڈ (بیرونی) FDD
اصل کے مطابق	11- FTT/FDD منسوخی
مفت	12- چیک کی ادائیگی روکنا

- 13- چیک بک کے گم ہونے پر ادائیگی روکنا۔ مفت
- 14- اکاؤنٹ کا ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ مفت
- 15- آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق مفت
- 16- اکاؤنٹ ری ایکٹیویشن چارجز (اکاؤنٹ دوبارہ فعال کرنے کے چارجز) مفت
- 17- چیک بک کا اجراء (تمام کرنسیوں کیلئے) - صرف 25 لیس (صفحات) مفت
- 18- PayPak ڈیبٹ کارڈ کا اجراء اور تجدید مفت
- 19- کلاسک ڈیبٹ ماسٹر کارڈ مفت
- 20- IBFT 200/- روپے تک مفت (ماہانہ) 0.1 فیصد یا -200/- روپے جو بھی کم ہو ایک ماہ میں -25,000 روپے سے زیادہ رقم پر -
- 21- OTP (ایس ایم ایس کے ذریعے ایک وقت کا پاس ورڈ) مفت

۱۲- بینک اسلامی ترجیحی بینکنگ

الف) ترجیحی بینکنگ کسفر ریلیشن شپ کا معیار

ترجیحی بینکنگ کی خدمات بینک اپنی صوابدید پر اپنے صارف کو پیش کرتا ہے (بشمول کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز) جو مطلوبہ اہلیت کو پورا کرتے ہیں اور درج ذیل مطلوبہ معیار کو برقرار رکھتے ہیں:

اکاؤنٹ کی قسم (کیٹگری)	کسفر کی قسم	ٹوٹل ریلیشن شپ (مشرکہ) بیلنس کی ضرورت
پی کے آر (پاکستانی روپے) اور ایف سی وائی (فارن کرنسی) میں چیکنگ اکاؤنٹس اور ٹرم ڈپازٹ سرٹیفیکیٹس کی تمام اقسام۔	• انفرادی • جوائنٹ اکاؤنٹ • واحد مالک	3 ملین روپے اور اس سے اوپر کا سہ ماہی اوسط بیلنس (یا فارن کرنسی (FCY) میں اس کے برابر)

نوٹ: اگر مطلوبہ معیار کو برقرار نہ رکھا گیا تو بینک اسلامی کی ترجیحی بینکنگ خدمات بند کی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد، خدمات کے چارجز بینک کے چارجز کے شیڈول کے مطابق لگائے جائیں گے۔

ب) ترجیحی بینکنگ فیس چھوٹ

- 1- ترجیحی ٹائمنیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کا اجراء: مفت
- 2- ترجیحی ٹائمنیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کی تبدیلی: مفت
- 3- SMS الرٹ: مفت
- 4- انٹرنیٹ بینکنگ: مفت
- 5- موبائل ایپلیکیشن: مفت
- 6- ای اسٹیٹمنٹ: مفت
- 7- پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کا اجراء: مفت

مفت	8- پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کی منسوخی:
مفت	9- ڈپلیکیٹ پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کا اجرا:
مفت	10- بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجرا:
مفت	11- ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا:
مفت	12- بینک کے درمیان فنڈز کی منتقلی:
مفت	13- اسپیشل کلیئرنگ چارجز (اسی دن کلیئرنگ):
مفت	14- آن لائن بینکنگ:
مفت	15- ون ٹچ بینکنگ:
مفت	16- چیک بک کا اجرا:
مفت	17- چیک واپسی کے چارجز:
مفت	18- چیک ادائیگی روکنے کے چارجز:
مفت	19- انورڈ ریمیمینس (اندرونی ترسیلات)
مفت	20- اسٹینڈنگ آرڈر انسٹرکشنز:
مفت	21- لاکر چارجز:
مفت	(*) دستیابی پر منحصر ہے

ج) کنزیومر بینکنگ مصنوعات پر چھوٹ:

مفت	i) اسلامی آٹو فنانس درخواست کی فیس:
مفت	ii) مسکن ہوم فنانسنگ پراسیسنگ چارجز:
	ترجیحی کسٹمر کے لیے برانچ مینجرفورف کردہ ریلیشن شپ مینجر کے طور پر خدمات انجام دے گا۔
	نوٹ:

- دیگر تمام چارجز بینک کے موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے۔
- ترجیحی بینکنگ خدمات ختم کرنے کے لیے، کسٹمر متعلقہ برانچ کو تحریری درخواست دے سکتا ہے۔

۱۳۔ بینک اسلامی مشعل - خواتین بینکنگ

الف) ڈپازٹ پروڈکٹس

خصوصیات	مشعل آسان اکاؤنٹ*	مشعل سیونگ اکاؤنٹ
چیک بک	مفت	مفت
پے آرڈر	مفت	مفت
ڈیبٹ کارڈ	ڈیبٹ کارڈ (کلاسک ماسٹر کارڈ/پے پاک) کے اجرا اور سالانہ سبسکریپشن فیس پر 50 فیصد رعایت	100,000/- روپے کے اوسط بیلنس پر ڈیبٹ کارڈ (کلاسک ماسٹر کارڈ/پے پاک) کا مفت اجرا اور سالانہ سبسکریپشن
دیگر چارجز	تمام مفت خدمات موجودہ SOC کے مطابق لاگو ہیں، بصورت دیگر عام چارجز لاگو ہوں گے	تمام مفت خدمات موجودہ SOC کے مطابق لاگو ہیں، بصورت دیگر عام چارجز لاگو ہوں گے

* اسلامی مشعل آسان Remunerative کرنٹ اکاؤنٹ

(ب) کنزیومر فنانس

(الف) آٹو فنانس

کام کرنے والی خواتین کے لیے خصوصی آفر:

- (i) کم * رینٹل ریٹس
- (ii) جلد اختتام کی صورت میں اضافی خریداری قیمت پر 50 فیصد رعایت۔
- (iii) پراسیسنگ فیس پر 75 فیصد رعایت۔
- * شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

(ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن)

کام کرنے والی خواتین کے لیے خصوصی پیشکش:

- (i) کم * رینٹل ریٹس۔
- (ii) درخواست پراسیسنگ فیس پر 50 فیصد رعایت۔
- (iii) جلد اختتام کی صورت میں اضافی خریداری قیمت پر 25 فیصد رعایت۔
- * شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

(ج) مشعل بزنس فنانس

کاروباری خواتین: کوئی بھی کاروباری ادارہ جس میں کسی خاتون کی حصہ داری 50 فیصد یا اس سے زیادہ ہو۔

پاکستانی روپے میں سہولیات (ملین)	کم از کم فیس (پاکستانی روپے)
5 ملین تک	5,000/-

پروسیسنگ فیس:

- پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پہلے سے لاگو ہوتی ہے، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔
- متفرق چارجز (یعنی دستاویزات، دستاویزات کی حفاظت، حفاظت کی تشخیص اور اس کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے وصول کیے جانے والے چارجز) بینک اسلامی کی اصل لاگت کے برابر ہوں گے۔

۱۴۔ زرعی فنانسنگ

(i) ٹریکٹر اور آلات کی فنانسنگ:

پراسیسنگ فیس: فنانس کی رقم کا 0.5 فیصد
(دستاویزات کے اخراجات اصل کے مطابق)
پراسیسنگ فیس:

(ii) دیگر فارم اور نان فارم فنانس:

- (i) 1 ملین روپے تک - 2,500 روپے
- (ii) 1.0 ملین روپے سے 5.0 ملین روپے تک - 5,000 روپے
- (iii) 5.0 ملین روپے سے زیادہ - 10,000 روپے
- (دستاویزات کے اخراجات اصل کے مطابق وصول کیے جائیں گے)

(iii) وزیراعظم یوتھ اور زرعی قرضہ اسکیم:

(i) پراسیسنگ فیس:

(ii) زمین اور دستاویزات وغیرہ کی تصدیق کے لیے:

100 روپے (دستاویزات کے اخراجات اصل کے مطابق)

1,000 روپے (دستاویزات کے اخراجات اصل کے مطابق)

۱۵۔ جین Z اکاؤنٹ

الف) کیش ٹرانزیکشن:

(i) شہروں کے درمیان اور اندرون شہر:

(ii) اپنے اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا:

(iii) دیگر بینک اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا:

دونوں مفت

مفت

23.44/- روپے

ب) ایس ایم ایس الرٹس:

(i) ڈیجیٹل/ADC:

(ii) کلیئرنگ:

(iii) دیگر ٹرانزیکشنز:

مفت

75/- روپے ماہانہ

اوپر دیے گئے چارجز میں شامل

ج) ڈیبٹ کارڈ:

(i) کلاسک ڈیبٹ ماسٹر کارڈ:

مفت

د) مقامی ترسیلات زر:

(i) بینکر چیک / پے آرڈر:

مفت

ر) اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ:

(i) سالانہ یا ششماہی:

دونوں مفت

س) ڈیجیٹل بینکنگ:

(i) انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ سبسکرپشن (ایک بار اور سالانہ): مفت

۱۶۔ نوٹس

الف) اسٹامپ ڈیوٹی / ایف ای ڈی اگر کوئی ہے تو ایف بی آر کے ضوابط کے مطابق بینک کے مذکورہ بالا چارجز کے علاوہ وصولی کی جائے گی۔

ب) تمام چارجز حکومتی ٹیکس کے تابع ہیں جو وقتاً فوقتاً اعلان یا ترمیم کیے جاسکتے ہیں۔

ج) انتظامیہ کی صوابدید پر کسٹمرز کو رعایت یا چھوٹ دی جاسکتی ہے۔

د) کرنٹ اکاؤنٹس 'قرض' پر مبنی ہیں، لہذا بینک کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو کسی بھی سہولت پر اضافی فائدہ یا چھوٹ فراہم نہیں کرے گا۔

ر) ایسے چارجز، بشمول بیرونی اخراجات، جو اس شیڈول میں شامل نہیں ہیں، انہیں ہر کیس کی بنیاد پر الگ سے وصول کیا جائے گا (مقامی شریعہ

بورڈ کے ممبر کی پیشگی منظوری کے تابع)۔